

TAX TIP OF THE WEEK

WWF is payable under Presumptive Tax Regime (PTR) @ 2% of (4% of value of supplies subject to withholding tax)

NIU TRAINING WING OF SOFTAX

Training workshops in Karachi & Lahore

UPCOMING EVENT

SALARY TAXATION

Karachi	Lahore
January 19, 2012 Venue: Regent Plaza, Karachi.	January 24, 2012 Venue: Hotel Sunfort, Lahore.

WITHHOLDING TAX

Karachi	Lahore
January 20, 2012 Venue: Regent Plaza, Karachi.	January 25, 2012 Venue: Hotel Sunfort, Lahore.

[Click here](#) to view the course contents & other information
or contact

Mr. Abdul Qadir (LHR) at 0333-8764898
Mr. Raheel Qayyum (KHI) at 0321-8953015

QUOTE OF THE WEEK

Be pleasant until ten o'clock in the morning and the rest of the day will take care of itself. (Elbert Hubbard)

BUSINESS TERM OF THE WEEK

Preliminary Official Statement (POS)

Preliminary prospectus on a pending new issue, circulated usually to gauge the level of interest among prospective investors by giving the broad information (but without indicating the price of the issue). Popularly known as red herring because of the notice (printed in red ink) on its first page which expressly states that the document is not an offer but a public disclosure on a forthcoming conditional sale. Also called preliminary prospectus.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتِكُونِ ﴿٢١﴾

Maulana Muhammad Joona Garhi	اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس (۱) کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر (۲) نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔
Maulana Ishaq Madni	اور ایمان لاؤ تم لوگ اس کتاب پر جو میں نے (اپنی کامل اور آخری کتاب کی شکل میں اب) اتاری ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کے پہلے منکر مت بنو اور مت لو تم لوگ میری آیتوں کے بدلے میں (دنیا کے دوں کا) گھٹیا مول اور تم خاص مجھ ہی سے ڈرو ۵
Maulana Mahmood ul Hassan Deobandi	اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے ۹ اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے ۱۰ اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ ہی سے بچتے رہو
Maulana Fateh Muhammad Jalandhri	اور جو کتاب میں نے (اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر) نازل کی ہے جو تمہاری کتاب (تورات) کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں (تخریف کر کے) ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی منفعت) نہ حاصل کرو اور مجھ ہی سے خوف رکھو
Maulana Abdur Rehman Kilani	اور اس (قرآن) پر ایمان لاؤ جو ہم نے (اب) نازل کیا ہے اور اس (کتاب تورات) کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی (سب سے) پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اور ہماری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور ہم ہی سے ڈرتے رہو
Maulana Ahmad Ali Lahori	اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو
Maulana Abul Aala Maududi	اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔
Maulana Taqi Usmani	And have faith in what I have revealed, confirming what is already with you, and do not be the first to deny it, nor take a paltry price for My verses. Fear Me alone.
Maulana Abdul Majid Daryabadi	And believe in that which I have sent down confirming that which is with you, and be not the first to disbelieve therein, and barter not My revelations for a small price, and Me alone shall ye fear.
Sahih International	And believe in what I have sent down confirming that which is [already] with you, and be not the first to disbelieve in it. And do not exchange My signs for a small price, and fear [only] Me.

AL-HADITH

عباس بن محمد دودی، عبید اللہ بن موسیٰ، شبیان، فراس، عطیہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایسے درخت ہیں کہ کوئی سوار اگر اس کے سایہ میں سو سال تک بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا (الظِّلُّ الْأَمْدُودُ) پھیلے ہوئے سائے سے یہی مراد ہے۔ (جو قرآن پاک میں مذکور ہے)

جامع ترمذی، جلد دوم، حدیث نمبر 423 حدیث مرفوعہ نمبر 28